

أَنْوَاتُ الشَّرِطِ جَازِمَةٌ

Conditional Particles

1 - غَيْرِ جَازِمَةٍ 2 - جَازِمَةٌ

غَيْرِ جَازِمَةٌ: ان سے مراد وہ کلمات ہیں جو شرط کا معنی تодیتے ہیں مگر فعل کو مجروم نہیں کرتے۔

Gair Jazimah: The words that denote condition but do not give Jazam to the verbs. They are as follows:

جَازِمَةٌ: ان سے مراد وہ کلمات ہیں، جو شرط کے معنی دیتے ہیں اور دو افعال کو مجروم کرتے ہیں۔

Jazimah: The words that denote condition and occur on two verbs.

• پہلا فعل وہ جو "أَنْوَاتُ الشَّرِطِ" کے بعد آتا ہے جیسے فعل شرط کہتے ہیں۔ اور دوسرا فعل جو جواب شرط میں آتا ہے۔ یہ کلمات شرط ان دونوں افعال کو مجروم کرتے ہیں۔

جیسے مِنْ يَا مُكْلِ كَثِيرًا يُفْسِدُ مَعْدُونَ (جو زیادہ کھائے گا اسکا معدہ خراب ہو جائیگا)

Whoever eats too much, will have an upset stomach.

• اگر شرط یا جواب شرط میں فعل مضارع ہوں تو جزم کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔

If both verbs are Fail Mudare then they (Jazimah) give Jazam to the verbs.

• اگر فعل ماضی ہو تو اس صورت میں لفظی طور پر فعل ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کیونکہ فعل ماضی مبنی ہے۔ لیکن فعل ماضی "فعل شرط" ہونے کی وجہ سے محلًا مجروم ہو گا۔

If there is fail Mazi then in case the fail mazi is said to be in the place of jazm.(Fee mahalli jazmin.) The particles (conditional pronouns which introduce the verb in the Jussive Case).

• اگر جواب شرط پر "فاء" ہو تو جواب شرط کا پورا جملہ مقام جزم (فی محل جرم) میں ہو گا۔

If the *jawab al shart* has *Faa* In this case the whole *jawab al shart* is said to be in the place of *jazm*.

• اور اگر جواب شرط جملہ اسمیہ ہو تو وہ جملہ بھی "فی محل جرم" ہو گا۔

And if the *jawab al shart jumla ismia* . In this case the whole *jawab al shart jumla ismia* is said to be in the place of *jazm*.

شرطیہ الفاظ، حرف بھی ہوتے ہیں اور اسم بھی ہوتے ہیں مثلاً "إِنْ، لَوْ، أَمَا" حروف ہیں۔

Remember that the conditional words can be particles or nouns.

شرطیہ جملے کی ترکیب

Conditional sentences Analysis

جملہ شرطیہ کے تین حصے ہوتے ہیں۔

جواب شرط/جرایہ جملہ

Jawab al shart

يَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ

شرط

condition

تَغْفِرٌ

أداة شرط

conditional particle

إِنْ

(حرف الشرط)

اگر تم معاف کرو گے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔

غُفْرٌ لَهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذَنِبٍيُقْبِلُ لِيَلَهُ الْقُدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًامِنْ

(اسم الشرط)

جو ایمان کی حالت میں صرف ثواب کی خاطر لیلہ القدر کو قیام اللیل کرئے گا، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے

شرطیہ جملے کی تحلیل

- أداة شرط / حرف الشرط / اسم الشرط

- شرط و جواب شرط/جرایہ جملہ (الجملة الشرطية)

The Faa is occurring for jawab shart.

- جوابا شرط فاء (الفاء واقعة في جواب الشرط)

- الجملة في محل جرم جواب الشرط

- اسم الشرط بحذف مجروم تجحيم فعلين

نُوٹ: یاد رہے کہ جوازم المضارع اور أدوات الشرط بحذف المذكر ہیں۔ أدوات الشرط صرف شرطیہ جملوں میں افعال کو

محروم کرتے ہیں۔ اور ان کے قواعد بھی فرق ہیں۔

Note: Remember that Jawaazim-ul-Mudare and Adwaat-ul-Shart-e-Jazimah are different. Adwaat-ul-Shart make the verb Majzoom only in conditional sentences. They have different rules.

أدوات الشرط

(Instruments of Conditional)

غير جازم

كُلَّمَا	لَمَّا	فَوْ	إِذَا
Whenever	When	if	If/when
(جب بھی)	(جب)	(اگر)	اگر/جب

فعل الشرط او رجواب الشرط دونوں افعال کو مجرزوم نہیں کرتے

Neither of the two verbs is made Majzoom.

أدوات جازم

ما	من	إن
Whatever	Whoever	If
جو بھی	جو کوئی	جب
أيَّنَ / أَيْنَمَا	مَهْمَا	مَتَّ
Wherever	Whatever	Whenever
جهان بھی	جو بھی	جب بھی
أَيُّ		
Whichever		
جونسا بھی		

یہ أدوات الشرط دونوں افعال (فعل الشرط اور رجواب الشرط) کو مجرزوم کرتے ہیں۔

Both the verbs (رجواب الشرط and فعل الشرط) are made Majzoom.

اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہو گا

And whoever should do that will meet a penalty.

(25:68) يَلْقَ أَثَاماً

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

مجھرو مان

مَنْ

Whoever

جو کوئی

جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں، یا بھلادیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں

We do not abrogate a verse or cause it to be forgotten except that We bring forth [one] better than it or similar to it. (2:106)

نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا

مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسِّهَا

مجھرو مان

مَا

Whatever

جو بھی

اور وہ (اہل فرعون) کہنے لگے: (اے موسی!) تم ہمارے پاس جو بھی نشانی لاو کہ تم اس کے ذریعے ہم پر جادو کر سکو، تب بھی ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔

They said (to Moses): "Whatever be the Signs thou bringest, to work therewith thy sorcery on us, we shall never believe in thee. (7:132)

فَمَا تَحْمِلُنَّ لَكَ بُكْرُ مِنْنَ

وَقَالُوا مَهْمَماً تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ

مجھروم

مَهْمَماً

Whatever

جو بھی

تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آپکے گی

(4:78) Wherever you may be, death will overtake you.

يُدْعُكُمُ الْمَوْتُ

أَيْنَمَا تَكُونُوا

مجھرو مان

أَيْنَ / أَيْنَمَا

Wherever

جہاں بھی

فعل شرط اور جواب شرط فعل

شرطیہ جملے میں فعل شرط اور جواب شرط فعل کی مختلف صورتیں مندرجہ ذیل ہیں۔

In the conditional sentence Fail Shart and Jawab Shart Fail can occur in the following different ways:

1 - دونوں فعل مضارع: اس صورت میں دونوں افعال پر جزم کی علامات ظاہر ہوگی۔

Both Fail Mudare: Both will be Majzoom.

﴿وَإِنْ تَعُودُوا نَعْدُ﴾ (8:19)

اگر تم پھر (نافرمانی) کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے

but if you return [to war], We will return.

• **وَإِنْ تَعُودُوا:** (فعل مضارع مجروم و علام جرم حذف الْأَنْوَنَ وَ فاعل الواو)

• **نَعْدُ :** (فعل مضارع مجروم و علام جرم بالسكون و فاعل مستتر تقدیرہ نحن)

2 - دونوں فعل ماضی: چونکہ فعل ماضی مبني ہوتا ہے، اس لیے اس پر کوئی اعرابی تبدیلی ظاہر نہیں ہوگی۔

﴿وَإِنْ مُعْدِمٌ عَدْنَا﴾ (17:8)

اگر تم نے پھر وہی (سرکشی کا طرزِ عمل اختیار) کیا تو ہم بھی وہی (عذاب دوبارہ) کریں گے

if you return [to sin], We will return [to punishment]

• **وَإِنْ مُعْدِمٌ:** (فعل ماضی مبني فی محل جرم فعل شرط و فاعل ضمير متصل ^{تم})

• **عَدْنَا:** (فعل ماضی مبني فی محل جرم جواب شرط و فاعل ضمير متصل ^{نا})

3 - فعل شرط فعل ماضی اور جواب شرط فعل مضارع:

اس صورت میں فعل شرط فعل ماضی فی محل جرم "ہو گا" دوسرا فعل مضارع پر جزم کی علامات ظاہر ہوگی۔

Fail Shart is Fail Madi in the place of jazam and Jawab Shart Fail is Fail Mudare: The second verb, Fail Mudare, will be Majzoom.

﴿مَنْ كَانَ يُوَيْدُ حَرَثَ الْآخِرَةِ فَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾
(42:20)

جس کا رادہ آخرت کی کھیتی کا ہو، ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے

Whoever desires the harvest of the Hereafter - We increase for him in his harvest.

- **كَانَ:** (فعل ماضى مبني فى محل جرم فعل شرط)
- **فَزِدْ:** (فعل مضارع مجروم و علام جرم بالسكون و فاعل مستتر تقديره نحن)

4- فعل شرط فعل مضارع اور جواب شرط فعل ماضى:

اس صورت میں فعل شرط فعل مضارع پر جزم کی علامات ظاہر ہو گی۔ فعل ماضی فی محل جرم "ہو گا"

Fail Shart is Fail Mudare and Jawab Shart Fail is Fail Madi: The first verb, Fail Mudare, will be Majzoom.

﴿مَنْ يَقْعِمَ لَيْلَةَ الْقُدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنِبِهِ﴾

جو ایمان کی حالت میں صرف ثواب کی خاطر لیلہ القدر کو قیام اللیل کرے گا، اپس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے،

Abu Huraira said the Messenger of Allah, peace be upon him from the left Qadr out of faith and hope of reward will be forgiven his past sins.

بخاری ، کتاب الایمان: 25

- **يَقْعِمُ:** (فعل مضارع مجروم و علام جرم بالسكون و فاعل مستتر تقدیره ہو)
- **غَفَرَ:** (فعل ماضی مبني للمجهول فی محل جرم جواب شرط)